

پری رجسٹریشن کی جانچ فہرست

جب آپ اسکول کے لیے رجسٹر ہوں تو ذیل کو ساتھ لانا یاد رکھیں۔

- بچہ جسے آپ رجسٹر کروا رہے ہیں،
- آپ کے بچے کی عمر کا ثبوت (بچے کی پیدائش کا سرٹیفیکٹ، پاسپورٹ، یا ہیٹسمہ کا ریکارڈ)،
- بچے کا مدافعتی ٹیکوں کا ریکارڈ (اگر دستیاب ہو)،
- بچے کا جدید ترین رپورٹ کارڈ / ٹرانسکرپٹ (اگر دستیاب ہو)، اور
- رہائش کی تصدیق کے لیے ذیل کے دستاویزات میں سے دو (2):
- جائے رہائش کے لیے ایک اصلی کرایہ نامہ، ملکیت کے کاغذات، یا مارگیج اسٹیٹمنٹ؛
- مکین کے نام ایک رہائشی یوٹیلٹی بل (گیس یا بجلی) جو ایک یوٹیلٹی کمپنی (جیسے نیشنل گرڈ یا کون ایڈیسن) کے ذریعے جاری کیا گیا ہو، مورخہ پچھلے 60 دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے
- جائے رہائش کو فراہم کی جانے والی کیبل ٹی وی خدمات کے لیے بل؛ اس پر والدین کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج ہونا ضروری ہے اور مورخہ پچھلے 60 دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے
- وفاقی، ریاستی یا مقامی حکومتی ایجنسی بشمول IRS، شہری رہائشی انتظامیہ، وفاقی دفتر برائے پناہ گزین تصفیہ، انسانی وسائل کی انتظامیہ یا بچوں کی خدمات کی انتظامیہ (ACS) یا ایک ACS ذیلی ٹھیکیدار کے سرنامہ پر دستاویز یا خط جس پر مکین کا نام اور پتے کی نشاندہی کی گئی ہو؛ مورخہ پچھلے 60 دنوں کے اندر کا ہونا لازمی ہے؛
- جائے رہائش کے لیے ایک موجودہ ملکیت کے ٹیکس کا بل؛
- مکین کے لیے پانی کا بل، مورخہ پچھلے 90 دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے۔
- کرائے کی رسید جس پر جائے رہائش کا پتہ شامل ہو؛ مورخہ پچھلے 60 دنوں کے اندر کا ہونا لازمی ہے؛
- ریاستی، شہری یا دیگر حکومت کی جاری کردہ شناخت (بشمول IDNYC کارڈ کے)، جو ختم نہیں ہوئی ہے اور جس پر جائے رہائش کا پتہ شامل ہے
- پچھلے کیلنڈر سال کا آمدنی کے ٹیکس کا فارم؛
- نیویارک ریاست کا سرکاری ڈرائیور لائسنس یا لرنرز پرمٹ جو ختم نہیں ہوا ہے
- آجر کی جانب سے پچھلے 60 دنوں کے اندر جاری کیے گئے سرکاری پے رول کے دستاویزات جیسے کہ بے اسٹب بمع گھر کا پتہ، ٹیکس کاٹے جانے کے مقصد سے جمع کیا جانے والا فارم یا پے رول رسید (آجر کے سرنامے پر ایک خط کافی نہیں ہے)؛ اس پر گھر کا پتہ لازماً شامل ہونا چاہیئے اور مورخہ پچھلے 60 دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے؛
- ووٹر رجسٹریشن دستاویزات، اس پر والدین کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج ہونا چاہیئے؛
- جائے رہائش پر مبنی غیر منسوخ رکنیت کے دستاویزات (مثلاً مضافاتی علاقے کے مکینوں کی انجمن)، جس پر والدین کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج ہونا چاہیئے؛
- بچے کی تحویل کا ثبوت، بشمول لیکن انہی تک محدود نہیں، عدالتی تحویل احکامات یا سرپرستی کے کاغذات؛ دستاویزات لازماً پچھلے 60 دنوں میں جاری کیے گئے ہوں اور ان پر طالب علم کا نام اور جائے رہائش کا پتہ شامل ہونا چاہیئے۔

پری رجسٹریشن کی جانچ فہرست، جاری

عارضی رہائش گاہوں کے طلباء کے لیے نوٹ

ممکنہ ویٹو کے مطابق عارضی رہائش گاہ میں رہنے والے طلباء سے اندراج کروانے کے لیے دستاویزات (بشمول پتہ، تاریخ پیدائش یا مدافعتی ٹیکوں کا ثبوت) جمع کروانا مطلوب نہیں ہے۔ اسکول کے لیے لازمی ہے کہ یہ طلباء کو عارضی طور پر پری رجسٹر کرے اور اس کے بعد دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلباء کے DOE رابطہ فرد سے رابطہ کرے۔